



## سوال

(74) نجاست کا علم نہ ہوتے ہوئے نماز وغیرہ پڑھنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک شخص کو مرض ہو گیا ہے بعد میں قضاء حاجت وہ بخوبی طہارت حاصل کرتا ہے پانی کے علاوہ مٹی وغیرہ سے بھی اپنا جسم مل کر پانی سے صاف کر لیتا ہے مگر پھر بھی بعض اوقات اس کا کپڑا خراب نظر آتا ہے اور اسی درمیان میں نماز بھی پڑھ لی ہوتی ہے تو کپڑا خراب ہونے کی حالت میں مگر علم نہ ہونے کی حالت میں وہ اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ (عبدالصمد عفی عنہ)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب سائل بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے یہ کیفیت ہے تو وہ معذور کے حکم میں ہے اور بصورت عذر لاعلمی میں اس نے نماز پڑھ لی تو نماز درست ہوگی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر حتی الامکان بہت احتیاط سے دیکھ بھال کر نماز شروع کرنی چاہئے۔

کتبہ عمید اللہ المبارک کفوری المدرس بدرسہ دار الحدیث الرمانیة الواقعہ بدلی 16/ ذوقعدہ 1358ھ

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 1

صفحہ نمبر 181



## محدث فتویٰ